

Quranic Duas Grief - Disease Fear - Evil

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

چار دیناوی مسائل اور انکا قرانی حل

مکر Evil Plot - خوف Fear - بیماری Disease - غم Grief

1 جو "غم" سے آزمایا گیا اس کے لیے قرانی آیت۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ -

نہیں کوئی معبود سوا تیرے تو پاک ہے بیشک میں ہوں قصور واروں میں سے (الانبیاء 88-87:21)۔
اس دعا پر اللہ نے فرمایا ہے۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ -

تو قبول کر لی ہم نے دعا اسکی اور نجات بخشی اسکو غم سے۔

اور مچھلی والا جب چل دیا وہ غصے میں پھر خیال کیا اس نے کہ ہرگز نہیں ہم گرفت کریں گے اس پر۔ پھر پکارا اس نے اندھیروں میں سے کہ نہیں کوئی معبود سوا تیرے تو پاک ہے۔ بیشک میں ہوں قصور واروں میں سے۔

وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۷﴾

تو قبول کر لی ہم نے دعا اسکی اور نجات بخشی اسکو غم سے۔ اور اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں ہم ایمان والوں کو۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾

2 جو "بیماری" سے آزمایا گیا اس کے لیے قرآنی آیت۔

اَيُّ مَسْنِي الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ -

مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے (الانبیاء 84-83:21)۔

اس دعا پر اللہ نے فرمایا ہے

فَاَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ

تو قبول کر لی ہم نے دعا اسکی پھر دور کر دی جو تھی اسے بیماری۔

اور ایوب کہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو کہ مجھے پہنچی ہے تکلیف اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں۔

وَ اَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَيُّ مَسْنِي الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ﴿٨٣﴾

تو قبول کر لی ہم نے دعا اسکی پھر دور کر دی جو تھی اسے تکلیف اور عطا فرمائے ہم نے اسکے اہل و عیال اور اتنے ہی مزید انکے ساتھ۔ یہ مہربانی ہماری طرف سے اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لئے۔

فَاَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَ اَتَيْنَاهُ اَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرًا لِّلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٤﴾

3 جو "خوف" سے آزمایا گیا اس کے لیے قرآنی آیت۔

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ -

کافی ہے ہمارے لئے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ (سورۃ آل عمران 175-174-173:3)۔

اس دعا پر اللہ نے فرمایا ہے۔

اِيْمًا ذٰلِكُمْ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّنُ اَوْلِيَآءَهُ -

در حقیقت یہ تھا تم کو شیطان کہ خوف دلا رہا تھا اپنے دوستوں سے۔

یہ وہ لوگ ہیں کہا جن سے لوگوں نے بلاشبہ بہت لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے (مقابلے کے) لئے تو ڈرو ان سے تو اور زیادہ ہو گیا ان کا ایمان۔ اور کہنے لگے کافی ہے ہمارے لئے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔

الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمًا ۗ وَ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾

پھر وہ لوگ نعمت کے ساتھ اللہ کی اور اس کے فضل سے۔

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَضْلِ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءًا

نہ پہنچا انہیں کوئی ضرر۔ اور تابع رہے وہ اللہ کی خوشنودی کے۔ اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔

وَاتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

در حقیقت یہ تھا تم کو شیطان کہ خوف دلا رہا تھا اپنے دوستوں سے۔ تو مت ڈرنا تم ان سے اور ڈرتے رہنا مجھ ہی سے اگر ہو تم مومن۔

إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِنَّ كُفْرَكُمْ لَمُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

4 جو "مکر" سے آزمایا گیا اس کے لیے قرآنی آیت۔

وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ -

اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کو۔ بیشک اللہ نگہبان ہے اپنے بندوں پر۔ (غافر 45-44:40)۔

اس دعا پر اللہ نے فرمایا ہے۔

فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا -

تو بچالیا اسے اللہ نے برائیوں سے جو انہوں نے پال چلیں۔

پس عنقریب تم یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم سے۔ اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کو۔ بیشک اللہ نگہبان ہے اپنے بندوں پر۔

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

تو بچالیا اسے اللہ نے برائیوں سے جو انہوں نے کیں اور آگھیرا آل فرعون کو برے عذاب نے۔

فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

Quran has response

اللہ ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے

اور نازل کرتے ہیں ہم قرآن میں وہ جو ہے شفا اور رحمت مومنوں کے لئے اور نہیں بڑھتا ظالموں کے حق میں مگر خساراً۔

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٧﴾

